

برامپٹن میں پرائیڈ کا جشن

برامپٹن، آن (1 جون 2022) – سٹی آف برامپٹن جون کے مہینے کو پرائیڈ منٹھ (Pride Month) کے طور پر منا رہا ہے۔ TD کی جانب سے پیش کردہ پرائیڈ 2022، بروز اتوار 19 جون کو گارڈن اسکوائر میں دن 2 سے 7 بجے تک براہ راست تفریح، کھانے پینے کی اشیاء کے مقامی اسٹالوں اور دیگر کئی رنگا رنگ پروگراموں کے ساتھ منائیں۔

برامپٹن کی متنوع آبادی کی خوبصورتی کا جشن منانے کے لیے سٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ جڑیں اور LGBTTIQ2SA کمیونٹی کو درپیش موجودہ مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کریں، خاص طور پر جیسا کہ یہ اس سال کے مرکزی تصوّر جسٹس از جوائے (*Justice is Joy*) سے متعلق ہے۔

پرائیڈ کو ایک بین الاقوامی تحریک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جس میں رحمدلی اور شفقت جیسے احساسات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ سٹی آف برامپٹن کو اس تقریب کو موقع پر مناتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جس میں درج ذیل خصوصیات ہوں گی:

- برامپٹن کے مقامی فنکاروں اور DJs کی لائیو اسٹیج پرفارمنس؛
- بشیل ایکس لیڈی پستا (Hasheel x Lady Pista) اور ہیڈ لائبر پریانکا (Priyanka) کی لائیو اسٹیج پرفارمنس؛
- اسٹوری ٹائم اور فے اینڈ فلفی کے ساتھ ملاقات اور خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع؛
- مقامی کمیونٹی پارٹنرز کے معلوماتی بوتھ؛
- مقامی ڈاون ٹاؤن برامپٹن ریسٹورینٹس کے ساتھ فوڈ پارٹنرشپس؛
- تحفے تحائف اور سائٹ پر سرگرمیاں؛ اور
- شام 7 سے 9 بجے تک لیڈی پستا کی خصوصی شرکت کے ساتھ روز پیٹیو میں ایک آفٹر پارٹی۔

پرائیڈ 2022 کے بارے میں مزید جاننے کے لیے brampton.ca/pride ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"میں پرائیڈ کی موقع پر منعقد کی جانے والی تقریبات کے اس جشن کی دوبارہ واپسی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ہمارے پاس پروگراموں اور فنکاروں کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے جو تفریح، جشن منانے اور ہماری کمیونٹی کو تقویت پہنچانے کے لیے تیار ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن خوبصورتی سے آپس میں جڑی ہوئی مختلف کمیونٹیوں پر مشتمل شہر ہے اور 'پرائیڈ' ہماری LGBTTIQ2SA کمیونٹی کے بارے میں جاننے، ان کا جشن منانے اور انہیں سپورٹ کرنے کا ہمارے پاس ایک شاندار موقع ہے۔ میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس سال 19 جون کو موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنی متنوع کمیونٹیوں کی خوبصورتی کی حمایت کرنے اور ان کا جشن منانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری ٹیم نے ہر لطف اور دلکش پروگراموں کا ایک پورا سلسلہ ترتیب دیا ہے اور ہم اپنے موقع پر منعقد ہونے والی 'پرائیڈ' کی تقریبات میں سب کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- پال موريسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca